



## قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے عمر! جب شیطان کسی راستہ سے چلتا ہے تو تم سے ملتا ہے تو وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے

سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی سے اجازت مانگی اس وقت آپ کے پاس قریش کی کچھ عورتیں (آپ کی بیویاں) اکٹھی تھیں، آپ سے زیادہ خرچ مانگ رہی تھیں، ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں جس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی (ان کی آواز کان میں پہنچی) تو سب کی سب کھڑی ہو کر پردے میں بھاگیں، چنانچہ رسول اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو اجازت دی اور آپ نے انس سے کہا، عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہنسنا رکھے، آپ نے فرمایا: مجھے ان عورتوں پر تعجب ہے جو ابھی میرے پاس بیٹھی تھیں (مجھ سے جھگڑ کر رہی تھیں)، تمہاری آواز سنتے ہی پردے میں ہو گئیں، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہونا تو یہ چاہیے کہ ان سب کو آپ کا ڈر زیادہ ہو، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ان عورتوں سے کہا کہ اپنی جانوں کی دشمنو! تم مجھ سے ڈرتی ہو اور نبی سے نہیں ڈرتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ توند مزاج اور سخت آدمی ہو اور نبی نرم ہیں، اس وقت رسول نے فرمایا: قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے عمر! جب شیطان کسی راستہ سے چلتا ہے تو تم سے ملتا ہے تو وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے

[صحیح] [متفق علیہ]

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی کے گھر میں آنے کی اجازت مانگی، اور آپ کے پاس قریش کی کچھ عورتیں (آپ کی بیویاں) اکٹھی تھیں بات چیت ہو رہی تھی، آپ سے زیادہ خرچ مانگ رہی تھیں اور ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں جس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی ان کی آواز کان میں پہنچی تو سب کی سب کھڑی ہو کر پردے میں بھاگیں، چنانچہ رسول اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو گھر میں آنے کی اجازت دی جب عمر رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے انس سے کہا، عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنسنا رکھے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے، چنانچہ نبی نے فرمایا: مجھے ان عورتوں پر ہنسی آئی جو ابھی عمر کے آنے سے پہلے میرے پاس بیٹھی تھیں، مجھ سے بلند آواز میں باتیں کر رہی تھیں، جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے ملنے سے ان سے پردے میں ہو گئیں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! ہونا تو یہ چاہیے کہ ان سب کو آپ کا ڈر اور احترام زیادہ ہو، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ان عورتوں سے کہا: اپنی جانوں کی دشمنو! تم مجھ سے ڈرتی ہو اور نبی سے نہیں ڈرتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں تم توند مزاج اور سخت آدمی ہو بر خلاف رسول اللہ کے کیونکہ وہ نرم ہیں، اس وقت رسول نے قسم کھا کر فرمایا کہ شک شیطان جب کسی راستہ سے چلتا ہے تو تم سے ملتا ہے تو وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

